

برائے فوری اجراء

**برامپٹن میں ماحولیاتی استحکام کے لیے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے!**

**سنٹر فار کمیونٹی انرجی ٹرانسفارمیشن میں بطور بورڈ ممبر شمولیت اختیار کریں؛ گرو گرین ایوارڈز کے لیے کسی فرد یا کاروبار کو نامزد کریں**

برامپٹن، آن (2 فروری 2022) – سٹی آف برامپٹن کے پاس اپنی کمیونٹی کے افراد، کاروباروں اور تنظیموں کے لیے دو نئے مواقع موجود ہیں۔

**سنٹر فار کمیونٹی انرجی ٹرانسفارمیشن (CCET)**

برامپٹن سٹی کونسل نے CCET ایڈوائزری ٹاسک فورس کی سفارشات کی متفقہ طور پر منظوری دے دی ہے، بشمول انوائرنمنٹل ماسٹر پلان کیپٹل بجٹ کی \$300,000 کی رقم کے موجودہ سرمائے کے فنڈز کو نئے CCET بجٹ کے لیے واپس مختص کرنا۔ یہ فنڈنگ CCET کے قیام میں مدد فراہم کرے گی اور اس کے پہلے سال کے کاموں میں خصوصی طور پر مددگار ثابت ہو گی اور سٹی کو تبدیلی آب و ہوا کے امور سر انجام دینے میں بھی مدد دے گی۔ مکمل رپورٹ دیکھنے کے لیے، ملاحظہ کریں: [www.brampton.ca/CCET](http://www.brampton.ca/CCET)

منظور شدہ فنڈنگ کے ساتھ، CCET اب ایسے پرجوش افراد کی تلاش میں ہے جو ٹرانزیشنل بورڈ میں رضاکارانہ طور پر کام کرنے میں دلچسپی رکھتے ہوں اور وہ CCET کو ایک باضابطہ غیر منافع بخش ادارہ بنانے میں مدد فراہم کریں۔

یہ مہارتوں پر مبنی گورننس بورڈ رضاکارانہ بنیادوں پر نو ارکان پر مشتمل ہو گا اور اس میں سٹی کے عملے کے پانچ ارکان شامل ہوں گے۔ رضاکار بورڈ CCET کے روزمرہ کے انتظامات اور آپریشن کے لیے ذمہ دار ہو گا۔

درخواست دینے کی آخری تاریخ 25 فروری 2022 ہے۔ مکمل معلومات حاصل کریں اور بورڈ ممبر کے لیے درخواست یہاں جمع کرائیں: [www.brampton.ca/CCET](http://www.brampton.ca/CCET)

**گو گرین ایوارڈ**

برامپٹن کے نئے گرو گرین ایوارڈز کے لیے کسی فرد، کاروبار، تنظیم یا ادارے کو نامزد کریں! یہ ایوارڈز پورے برامپٹن میں ایسے نمایاں افراد، کاروباری اداروں اور تنظیموں کی خدمات کو تسلیم کریں گے جنہوں نے ماحولیاتی بہتریوں کے حوالے سے کوئی سرکردہ کردار کیا ہے اور برامپٹن کو ایک صحت مندانہ، ماحولیاتی طور پر مستحکم اور لچکدار شہر بنانے کے لیے ہمارے قدرتی اور تعمیر شدہ ماحول کو تحفظ دینے، اضافہ کرنے اور متوازن رکھنے کے لیے گو گرین ویژن میں نمایاں طور پر تعاون کیا ہو۔

ایوارڈز کے چار زمروں میں درج ذیل شامل ہیں:

- **کلانیمٹ چینج ایوارڈ** – کسی ایسے فرد اور کاروبار/تنظیم کو دیا جاتا ہے جس نے موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرنے اور/یا موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ موافقت سے متعلق آگاہی/علم اور عمل کو آگے بڑھانے میں نمایاں طور پر کوئی تعاون کیا ہو۔
- **سٹیورڈشپ ایوارڈ** – کسی ایسے فرد اور کاروبار/تنظیم کو دیا جاتا ہے جس نے درختوں کے تحفظ اور/یا نگرانی، قدرتی ورثے کے نظام، پانی اور/یا فضلے میں کمی لانے کے حوالے سے ماحولیاتی استحکام کے اقدامات کو آگے بڑھانے میں نمایاں طور پر تعاون کیا ہو۔
- **انوائرنمنٹل یوتھ ایوارڈ** – کسی ایسے فرد یا نوجوانوں کے گروپ کو دیا جاتا ہے جس نے برامپٹن میں ماحولیاتی تحفظ، موسمیاتی تبدیلیوں کے اقدامات، اور/یا بقاء کے فروغ میں کسی غیر معمولی کامیابی کا مظاہرہ کیا ہو۔
- **انوائرنمنٹل لیگیسی ایوارڈ** – کسی ایسے فرد کو دیا جاتا ہے جس نے ایک صحت مندانہ، لچکدار اور ماحولیاتی طور پر ایک مستحکم شہر بنانے کے لیے ہمارے قدرتی اور تعمیر شدہ ماحول کے تحفظ، توسیع اور توازن کے گرو گرین ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے شاندار ذاتی خدمات سر انجام دی ہوں اور اس حوالے سے جاری کاوشوں میں بھرپور شرکت کی ہو۔

نامزدگیوں کی آخری تاریخ 28 فروری 2022 ہے۔ صحت عامہ کے رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے 2022 کے موسم بہار میں ایک ایوارڈز کی تقریب بالمشافہ یا ورجنل طور پر منعقد کی جائے گی۔ ایوارڈز کی تفصیلات اور نامزدگی فارم مکمل کرنے کے لیے [پہاں کلک کریں](#)۔

#### اقتباسات

"برامپٹن ایک گرین سٹی ہے اور ماحولیاتی استحکام میں سرکردہ حیثیت رکھتا ہے، جس کے لیے ہم اپنی کمیونٹی میں موجود ماحولیات کے معاونین کے شکر گزار ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہوں جو برامپٹن میں ماحولیاتی استحکام کے حوالے سے اپنے تعاون کے لیے پہچان کا مستحق ہو، تو اسے گرو گرین ایوارڈز کے لیے نامزد کریں۔ اگر آپ کو بورڈ ممبر کے طور پر تجربہ ہے، تو CCET بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے درخواست دیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ہم گرو گرین ایوارڈز کے لیے نامزدگیوں اور CCET بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے موصول ہونے والی درخواستوں کو دیکھنے کے منتظر ہیں۔ برامپٹن سٹی کونسل 2050 تک برامپٹن میں پیدا ہونے والی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو 80 فیصد تک کم کرنے کے ہمارے سفر پر، ہمارے شہر میں پیدا ہونے والی کاربن کو کم کرنے کے لیے وقف ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور اس تبدیلی کا حصہ بنیں۔"

- پال ویسینٹے، چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5، سٹی آف برامپٹن

"گرو گرین ایوارڈز اور CCET بورڈ آف ڈائریکٹرز سرسبز و شاداب شہر کے حوالے سے ہمارے مشن کی حمایت کرتے ہیں، جیسا کہ CEERP اور کونسل کی مدت کی ترجیحات میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم موسمیاتی تبدیلی کے تمام رہنماؤں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان مواقع کے ذریعے عالمی موسمیاتی تبدیلیوں میں برامپٹن کے کردار کو کم کرنے میں مدد فراہم کریں اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دیں۔"

- ٹوگ ویلینز، سٹی کونسلر، وارڈز 2 اور 6؛ ممبر انوائرنمنٹ ایڈوائزر کمیٹی؛ ممبر، CEERP کمیونٹی ٹاسک فورس، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن ہمارے موسمیاتی تبدیلیوں کے اہداف کو پورا کرنے اور ہماری کمیونٹی میں ان لوگوں کے کردار کو تسلیم کرنے کے لیے پُر عزم ہے جو ماحولیاتی استحکام کو بہتر بنانے اور ہمارے ماحولیاتی معیار میں مزید اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزید جانیں، کسی مستحق شخص کو گرو گرین ایوارڈز کے لیے نامزد کریں یا [Brampton.ca](#) پر جا کر CCET بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے درخواست جمع کروائیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [ٹویٹ](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](#) ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ  
سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا  
[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)